

CLOTHING AND TEXTILE

TIME ALLOWED: 1.45 Hours

SUBJECTIVE حصہ انشائیہ

وقت = 1.45 گھنٹے

MAXIMUM MARKS: 48

کل نمبر = 48

نوٹ: جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو کہ سوالیہ پرچے میں درج ہے۔
Write same question number and its part number on answer book, as given in the question paper.

SECTION-I حصہ اول

2. Attempt any five parts.

10 = 2 x 5

سوال نمبر 2۔ کوئی سے پانچ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

- Write the method of washing the woolen sweater. (i) اونٹنی سویر کو دھونے کا طریقہ لکھیں۔
- How should the planning of dressing be done? (ii) لباس کی منصوبہ بندی کیسے کرنی چاہیے؟
- What are the different stages of age? (iii) عمر کے مختلف ادوار کون سے ہیں؟
- How can we care the clothes? (iv) لباس کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟
- Write two types of fashion. (v) فیشن کی دو اقسام لکھیں۔
- How can we care the sewing machine? (vi) سلائی مشین کی حفاظت ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟
- What is meant by drafting? (vii) ڈرافٹنگ سے کیا مراد ہے؟
- How is the list of dresses made? (viii) ملبوسات کی فہرست کیسے بنائی جاتی ہے؟

3. Attempt any five parts.

10 = 2 x 5

سوال نمبر 3۔ کوئی سے پانچ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

- What is meant by PSIC? (i) پی ایس آئی سی سے کیا مراد ہے؟
- Write a note on Electric iron. (ii) بجلی کی استری پر نوٹ لکھیں۔
- In how many parts SMEDA is divided? (iii) سمنڈا کتنے حصوں میں منقسم ہے؟
- How can the stains on silky clothes be removed? (iv) ریشمی کپڑوں کے دھبے کیسے دور کیے جاسکتے ہیں؟
- Write down the method of folding Qameez. (v) قمیض کو تہہ لگانے کا طریقہ تحریر کریں۔
- How can we identify the durability of thread? (vi) دھاگے کی مضبوطی کی پہچان کیسے کی جاتی ہے؟
- How can we care the clothes during its use? (vii) استعمال کے دوران ہم لباس کی دیکھ بھال کیسے کر سکتے ہیں؟
- What is meant by taking the body measurement? (viii) جسم کا ناپ لینے سے کیا مراد ہے؟

4. Attempt any five parts.

10 = 2 x 5

سوال نمبر 4۔ کوئی سے پانچ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

- What is flat stitching? (i) چپٹی سلائی کیا ہوتی ہے؟
- How is the curry stain removed? (ii) سالن کا دھبہ کیسے اتارا جاتا ہے؟
- What is the function of balance wheel in sewing machine? (iii) سلائی مشین کا پھیپس کس کام آتا ہے؟
- What is meant by surface design? (iv) سطحی ڈیزائن سے کیا مراد ہے؟
- What is the function of small scissor? (v) چھوٹی قینچی کیا کام کرتی ہے؟
- How is the budget affected by purchasing the clothes? (vi) ملبوسات کی خریداری بجٹ کو کیسے متاثر کرتی ہے؟
- How is the needle installed in sewing machine in correct way? (vii) مشین کی سوئی کو درست طریقے سے کیسے لگایا جاتا ہے؟

SECTION-II حصہ دوم

NOTE: Attempt any two questions.

18 = 9 x 2

نوٹ: کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔

- Write down the importance of pressing the cloth during stitching. (5) سلائی کرتے وقت استری کرنے کی اہمیت بیان کریں۔
- Which safety measures should be kept in mind during the process of stain removal? (6) داغ دھبے دور کرنے کے دوران کون سے حفاظتی اقدامات کو مد نظر رکھنا چاہیے؟
- Describe in detail, the economic and social importance of fashion. (7) فیشن کی معاشی اور معاشرتی اہمیت کو تفصیلاً بیان کریں۔

CLOTHING AND TEXTILE

لباس اور پارچہ بانی

TIME ALLOWED: 15 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

وقت = 15 منٹ

MAXIMUM MARKS: 12

کل نمبر = 12

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھر کرنے یا کاٹ کر بھر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو بھر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہر گز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1

سوال نمبر 1-

- (1) Polyester's fibers have the surface: (1) پولی ایسٹر کے ریشے سطح رکھتے ہیں۔
(A) Shiny چمکدار (B) Compact ملائم (C) Smooth ہموار (D) Rough کھردری
- (2) Dress _____ the human personality. (2) لباس انسان کی شخصیت کو کرتا ہے۔
(A) Checks جانچ کرتا ہے (B) Deforms بگاڑتا ہے (C) Enhances سنوارتا ہے (D) Nothing کچھ نہیں
- (3) To take part in games _____ are necessary. (3) کھیلوں میں حصہ لینے کے لیے ضروری ہے/ ہیں۔
(A) Socks جرابیں (B) Shoes جوتے (C) Strollers مفطر (D) Coat کوٹ
- (4) Soft and cool cloth is: (4) نرم ملائم اور ٹھنڈا کپڑا ہوتا ہے۔
(A) Silky ریشی (B) Woolen اونی (C) Acetate ایسیٹ (D) Cotton سوتی
- (5) Dress should be protected from: (5) لباس کو _____ سے بچانا چاہیے۔
(A) Weather effects موسمی اثرات (B) Sunlight دھوپ (C) Shadow چھاؤں (D) Rain بارش
- (6) The width of sleeves is: (6) آستین کی چوڑائی ہوتی ہے۔
(A) 21cm (B) 33cm (C) 26cm (D) 27cm
- (7) Nylon is the name of: (7) نائیلون ایک نام ہے۔
(A) Fiber ریشے کا (B) Plant پودے کا (C) Chemical compound کیمیائی مرکب کا (D) Plant sources نباتاتی ذرائع کا
- (8) In dry cleaning, stains are washed by: (8) ڈرائی کلیننگ میں داغ دھبے دور کرنے کے لیے اسے _____ سے دھویا جاتا ہے۔
(A) Carosine oil مٹی کے تیل (B) Detergent سرف (C) Petrol پٹرول (D) Spirit سپرٹ
- (9) Designs on clothes are made by _____ methods. (9) کپڑوں پر ڈیزائن کتنے طریقوں سے بنائے جاتے ہیں؟
(A) Three تین (B) Five پانچ (C) Four چار (D) Six چھ
- (10) The planning should always be done through: (10) منصوبہ بندی ہمیشہ _____ کرنی چاہیے۔
(A) Leisure فرصت میں (B) Hard work محنت سے (C) Thinking سوچ بچار کر کے (D) Time وقت پر
- (11) _____ clothes should not be hung in wet state. (11) _____ کپڑوں کو گیلی حالت میں کبھی نہیں لٹکانا چاہیے۔
(A) Silky ریشی (B) Nylon نائیلون (C) Rayon رے اون (D) Woolen اونی
- (12) Basically how many elements are there in fashion? (12) بنیادی طور پر فیشن کے کتنے عناصر ہیں؟
(A) Four چار (B) Six چھ (C) Five پانچ (D) Ten دس

OBJECTIVE KEY FOR SSC ANNUAL EXAMINATION, 2022.

Name of Subject: CIT Session: A/22 ✓

Q.Nos	Paper Code	Paper Code	Paper Code	Paper Code
	3751			
1	D			
2	C			
3	B			
4	C			
5	A			
6	C			
7	C			
8	C			
9	B			
10	C			
11	D			
12	A			
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

سرٹیفکیٹ بابت تصحیح سوالیہ پرچہ / مارکنگ Key

ہم نے مضمون بیس اور پانچ بانی پرچہ Part II 10th گروپ میٹرک سالانہ امتحان 2022 کا سوالیہ پرچہ انشائیہ و معروضی (Subjective & Objective) کو بنظر عین چیک کر لیا ہے یہ پرچہ Syllabus کے عین مطابق Set کیا گیا ہے۔ اس سوالیہ پرچہ میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ ہم نے سوالیہ پرچہ کا اردو اور انگریزی Version بھی چیک کر لیا ہے۔ یہ Version آپس میں مطابقت رکھتے ہیں۔ نیز اس پرچہ کی معروضی (MCQs) Key کی بابت تصدیق کی جاتی ہے کہ اس میں بھی کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ مزید یہ کہ ہم نے Key بنانے سے متعلق دفتر کی جانب سے تیار کردہ ہدایات وصول کر کے ان کا بغور مطالعہ کر لیا ہے اور ان کی روشنی میں Key بنائی ہے۔ نیز سب ایگزامینرز کیلئے تفصیلی مارکنگ ہدایات / مارکنگ سکیم / Rubrics بھی تیار کر دی گئی ہیں۔

Prepared & Checked By:

Dated: 11-5-2022

S.#	Name	Designation	Institution	Mobile No	Signature
1	Asma Tabassum	Principal	G.E.M.H/S No. 1 Nawa	03476372841	
2	Dilshad Begum	SSS(Rtd)	G.E.H.S.S. Suraj Miani,	03008630336	
3			Multa		
4					